

زاما دختري بزرگ و عالي است!

Zama er flink!

- ✎ Michael Oguttu
- ☞ Vusi Malindi
- ☞ Marzieh Mohammadian Haghghi
- 💬 persisk / nynorsk
- 📊 nivå 2

(uten bilder)



بَرَادَرِ كُوچِكْمَ تا دِير وَقْت مِيْخواَبَد. مَن زُود بِيدار مِيْشَوَم
چون مَن بُزْرَگ وَعَالَى هَسَّتَم!

...

Veslebror min såv veldig seint. Eg vaknar
tidleg fordi eg er flink!

من همان کسی هستم که با باز گردن پنجره اجازه می‌دهم که
نور خورشید به داخل بیاید.

...

Eg er ho som slepp sola inn.



مادر می گوید: "تو ستارهٔ ی چُبِح من هستی"

...

"Du er morgenstjerna mi", seier mamma.

من خودم را به تنهایی می‌شویم، من به کمک هیچکس نیازی ندارم.

...

Eg vaskar meg sjølv, eg vil ikkje ha hjelp.



من مى توانم با آپ سرد و صابون آبی بدببو کنار بیایم.

...

Eg toler kaldt vatn og blå stinkande såpe.

مادَرَم بِه مَن يَادَأْوَرِي مَنْ كُنْد، "مسواك زَدَن رَا فَرَامُوش نَكَن.

مَن بِه مادَرَم مَنْ گَوِيم، "مَن! هَرِگِز!"

...

Mamma minner meg på tannpussen:
"Gløym ikkje tennene." Eg svarar: "Aldri,
ikkje eg!"

بَعْدَ أَزْ شُسْتَنْ، مَنْ بِهِ پَدَرْبُزْرَگْ وَ آنْتِي سَلَامْ مِيْ كُنْمْ وَ دَاشْتَنْ
رَوْزِيْ خَوْبْ رَا بَرَايْشَانْ آرْزُو مِيْ كُنْمْ.

...

Etter kroppsvasken helsar eg på bestefar og
tante og ynskjer dei ein god dag.

”بعد خودم بە تنهایی لباس هایم را می پوشم، و می گویم،
”من بُزرگ شدم ماماً.”.

...

Så kler eg meg sjølv. ”Eg er stor no, mamma”, seier eg.



من می‌توانم ذکمه هایم و سگ کفشه هایم را بیندم.

...

Eg kan kneppa knappar og spenna skorne
mine.

و مُطهِّئن می شَوَم كِه بَرَادِر كُوچَكْم تَمامِ أَخْبَارِ مَرْبُوط بِه
مَدِرِسَه را می دَانَد.

...

Og eg sørgjer for at for veslebror får vita alt
nytt frå skulen.



دَرِ كِلاسْ مَنْ ثَمَامِ تَلَاشَمْ رَا دَرِ هَمِه يِ زَمِينَه هَا مَىْ كُنَمْ.

...

I timane gjer eg mitt beste på alle måtar.

من ٿماڻ اين ڪارهای خوب را هر روز آنجام مى دهم. ولی ڪاري
که بيشتر آز همه ٻه آن! ڳلاقه دارم، بازي گردن و بازي است.

...

Eg gjer alle desse gode tinga kvar dag. Men
det eg likar mest, er å leika og leika!



Barnebøker for Norge

barneboker.no

زاما دختری بزرگ و عالی أست!

Zama er flink!

Skrevet av: Michael Oguttu

Illustret av: Vusi Malindi

Oversatt av: Marzieh Mohammadian Haghghi (fa), Espen Stranger-Johannessen, Martine Rørstad Sand
(nn)

Denne fortellingen kommer fra African Storybook (africanstorybook.org) og er videreført av Barnebøker for Norge (barneboker.no), som tilbyr barnebøker på mange språk som snakkes i Norge.

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons
[Navngivelse 3.0 Internasjonal Lisens](#).